

لی زبان سادہ ہوتی ہے۔ لیکن سوز و گداز۔ درد و کرب۔ اور عین تاثیر سے ان کے اشعار لبریز ہوتے ہیں۔ مثلاً اشعار ذیل دیکھئے۔

بکیں مرگ پر آنسو بھرے نزع میں اپنے مرنیکا میں خود کرتا ہوا ماتم گیا
 تکلیف ضبطِ عشق کی اندری لذتیں آنسو بھول گئے آنکھ میں لیکن ہنسائے کئے
 کیا زندگی تھی عشق و محبت کی زندگی اک نامراد دل کے سہارے جیا کئے

اس حصہ میں تسکین صاحب کی تعبیہ، عاشقانہ اور واقعاتی متصوفانہ اور فلسفیانہ ہر قسم کی نظیں، قطعات، مرثیے اور غزلیات سب کچھ موجود ہے اور حسن و خوبی کے لحاظ سے ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہے۔ رفعتِ تخیل، سادگی بیان، سوز و گداز، قدرتِ ادا اور حقیقت رسی کلام تسکین کا خاص جہر ہے۔ ارباب ذوق کیلئے اس کا مطالعہ گونا گوں دلچسپی کا سبب ہوگا۔

طلوعِ سحر از جناب صامن حسین صاحب گویا جہاں آبادی تقطیع بڑی ضخامت ۸ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر قیمت درج نہیں۔ غالباً بیلی الیکٹریک پریس بیلی سے مل سلیگی۔

گویا صاحب جہاں آبادی اپنے کلام کا ایک ضخیم مجموعہ شائع کرنا چاہتے ہیں جو آٹھ ابواب پر تقسیم ہوگا۔ یہ کتابچہ اس ضخیم مجموعہ کے نمونہ کے طور پر شائع کیا ہے۔ اس مختصر نمونہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا صاحب روئے کے کہنے مشقِ شاعر ہیں اور نظیں زیادہ تر اسلامی اور قومی و مذہبی لکھتے ہیں۔ کلام میں تصرف کی چاشنی بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔

اوجِ کمال از جناب مولوی عبد الباقی صاحب عتیقی تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۲ صفحات۔ کتابت و طباعت معمولی قیمت قدرتیہ۔ کمال بکٹریو لاہور۔

اس کتاب میں غازی مصطفیٰ کمال یا شاعر جرم کے حالات و سوانح اور ان کے قومی و جنگی کارنامے آسان اور سستہ زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن کتاب مورخانہ نہیں بلکہ عقیدت مند اعصاب پر